

بچوں کا ویکسینیشن پروگرام:

آپ کے بچے کو ان بیماریوں کے خلاف ویکسین کی پیشکش ملتی ہے

| | |
|---|---|
| <p>6 ہفتے کی عمر میں *1 ٹیکا</p> <p>روٹا وائرس (پینے کے لیے قطرے، ٹیکا نہیں لگتا) *جن بچوں کے والدین کا تعلق ایسے ممالک سے ہو جہاں ٹی بی (تپدق) عام ہے: تپدق کی ویکسین (بی سی جی ویکسین) *حمل کے ہفتہ 32 سے پہلے پیدا ہونے والے بچے: خناق • تشنچ • کالی کھانسی • پولیو • Hib (انفلوئنزا) انفیکشن • ہیپاٹائٹس بی</p> | <p>3 مہینے کی عمر میں 2 ٹیکے</p> <p>روٹا وائرس • خناق • تشنچ • کالی کھانسی • پولیو • Hib (انفلوئنزا) انفیکشن • ہیپاٹائٹس بی • نیومو کوکل بیماری</p> |
| <p>5 مہینے کی عمر میں 2 ٹیکے</p> <p>• خناق • تشنچ • کالی کھانسی • پولیو • Hib (انفلوئنزا) انفیکشن • ہیپاٹائٹس بی • نیومو کوکل بیماری</p> | <p>12 مہینے کی عمر میں 2 ٹیکے</p> <p>• خناق • تشنچ • کالی کھانسی • پولیو • Hib (انفلوئنزا) انفیکشن • ہیپاٹائٹس بی • نیومو کوکل بیماری</p> |
| <p>15 مہینے کی عمر میں 1 ٹیکا</p> <p>• خسرہ • کن پیڑے • روبیلا</p> | |

ویکسینیشن سے پہلے اور ویکسینیشن کے بعد

ان صورتوں میں پبلک ہیلتھ نرس کو بتائیں کہ

- آپ کے بچے کو الرجی یا صحت کا کوئی اور مسئلہ ہو
- بچے کو حال ہی کوئی دوائی ملی ہو یا کوئی اور ویکسین لگی ہو
- ماں کو حمل کے دوران اور/یا دودھ پلانے کے عرصے میں ایسی دوائیاں ملی ہوں جو مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہیں

ویکسینیشن کے بعد بچے کو 20 منٹ تک ہیلتھ سٹیشن میں ہی رک کر انتظار کرنا چاہیے۔ اکثر بچوں کو ویکسینیشن کے بعد بہت کم ردعمل ہوتا ہے یا کوئی ردعمل نہیں ہوتا لیکن کچھ بچوں کو ہلکے اور وقتی ردعمل پیش آتے ہیں جیسے ہلکا سا بخار۔ اگر بچے کو 39 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بخار ہو جائے اور/یا اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو یہ شدید بیماری کی علامت ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ویکسین کا ردعمل ہو۔ اس لیے بچے کے بارے میں فکر پیدا ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

کامی نیشن ویکسین

کامی نیشن ویکسین اس ویکسین کو کہتے ہیں جو ایک ہی ٹیکے میں کئی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ پروگرام میں شامل اکثر ویکسینز اسی طریقے سے لگائی جاتی ہیں۔ اس طرح الگ الگ ویکسینز لگانے کی نسبت کامی نیشن ویکسین سے بچے کو کم بار ٹیکا لگانا پڑتا ہے اور ٹیکے کی جگہ پر کم ردعمل ہوتا ہے۔

سکول کی عمر کے بچوں کا ویکسینیشن پروگرام

سکول کے دور میں بچے کو بعض ویکسینز کی بوسٹر ڈوز لگوانے کی پیشکش ملتی ہے۔ ساتویں جماعت میں ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) کے خلاف ویکسین پیش کی جاتی ہے۔

بچے کو لگنے والی ویکسینز کی تفصیل

بچے کو لگنے والی تمام ویکسینز کو نیشنل ویکسینیشن رجسٹر SYSVAK میں درج کیا جاتا ہے۔ آپ www.helsenorge.no پر Vaksinetjenesten میں اپنے بچے کی ویکسینیشنز دیکھ سکتے ہیں۔